

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expression. (10)

اپنے پوشیدہ عیوبوں کو معلوم کرنے کے لیے ہے دیکھنا ضروری ہے کہ بمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں، بمارے دوست اکثر بمارے دل کے موافق بماری تعریف کرتے ہیں۔ اول بمارے عیب ان کو عیب ہیں لگتے یا پھر بماری خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے ان کو چھپاتے ہیں۔ یا پھر ان سے جسم پوشی کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے بمارا دشمن ہم کو خوب شکلتا ہے اور کوئی دونے سے ڈھونڈ کر بمارے عیب نکالتا ہے، کوہ دشمن سے چوٹی بل کو بڑا بنانا ہے۔ مگر اس میں کچھ نہ کچھ اصلیت بتوی ہے دوست بیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیوبوں کو، اس لیے بہیں اپنے دشمن کا زیادہ احسان مل دوں چاہیے کہ وہ بہیں بمارے عیوبوں سے مطلع کرتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو دشمن دوست سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔

## Translation 2017 Paper

It is necessary to look at what our enemies say about us in order to find flaws in ourselves. Our friends often say what we want to hear. At first they do not consider our flaws as flaws, or they hide them because they do not want to make us sad or neglect them. In contrast to it, our enemy grope us and tries his level best to find flaws in us. He sometimes exaggerate things due to enmity. But there is reality in it. Friend always amplifies virtues of another friend and enemy flaws. That's why we should be thankful to our enemies because they aware us about our flaws. In view of this context, an enemy is better than a friend.

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

پاکستان، افغانستان میں امن کے لیے پر عزم ہے کیونکہ افغانستان میں امن، پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان بڑوئی برادر اسلامی ملک ہونے کے نتے تاریخی، ثقافتی، لسانی رشتہوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے الٹ پیں، دونوں کا الحصار ایک دوسرے پر اور دونوں اللگ رہے ہیں میں سکتے۔ پاکستان کا موقف روز اول سے یہی رہا ہے کہ افغان مسئلے کا یہی حل کالا جائے۔ اس موقف کی حمایت چین بھی کرتا ہے۔ اس ٹھنڈی میں چین نے کہا ہے کہ افغان تباہی کا افغان قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات سے ہی حل ممکن ہے۔ پاکستان اور چین اسٹریکٹ شراکت کے لیے افغان تباہی کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔

## 2019 Translation

Pakistan is excited for peace in Afghanistan because peace in Afghanistan is very important for Pakistan. If looked at past, being neighbour and Islamic countries, Pakistan and Afghanistan are connected to each other in historical, cultural and linguistic relations. These relations are eternal; both are dependent on each other and cannot live independently. The concern of Pakistan from day first is to find a political solution of Afghan problem. China is also advocate of this concern. China has said in this regard that the solution of Afghan dispute is only possible through peaceful dialogues under Afghan leadership. Pakistan and China will play their role in solving the Afghan dispute through dialogues for their strategic relationship.

2020

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions.

دیا کی ہر قوم کا نظام تعلیم لہنی قوم کے مزاج سے تم آہنگ دوتا ہے جو قوی اور طی مقامد کی تکمیل و تکمیل کرتا ہے۔ اور قوم مطلوبہ مقامد کے لیے مرگم عمل رہتی ہے۔ چاہو کسی قوم کا نظام تعلیم دہنسے گے اس نظام تربیت ہے جس کے تحت قوم کے افراد کی ذاتی صلاحیتوں کو برداں چڑھانے اور ان کی سیرت و کردار کی تحریر میں بروٹی ہے۔ نظام تعلیم افراد کی تربیت اسی اندراز سے کرتا ہے کہ افراد قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔

helpful character building level mental endevor ability

## Translation 2020

The educational system of every nation is according to the will of the nation, which integrates and forms the national purposes. Nation enthusiastically fulfill the requisite purposes. Therefore, the educational system of a nation is that comprehensive practice which is helpful in the development of mental abilities of an individuals and their character building. Education system educates a person in such way that changes the fates of nation.